

نعت

پروفیسر محمد اکرام تائب

بات بگڑی بنانے کی باتیں کریں
سبز گنبد، سنہری کلس کی جھلک
جب و حسن مجسم تھا جلوہ نما
جس کے درکا ہے دربان روح الایمیں
جب مدینے میں آمد ہوئی آپ کی
پھول چن چن کے تائب عقیدت کے اب
گُوئے طیبہ میں جانے کی باتیں کریں
پیاس دل کی بجھانے کی باتیں کریں
اس گھڑی اس زمانے کی باتیں کریں
اس نبی کے گھرانے کی باتیں کریں
مل کے وہ گیت گانے کی باتیں کریں
دل کی دنیا سجانے کی باتیں کریں



نعت

پروفیسر خالد شبیر احمد

اشک نایاب سے آنکھوں کو منور رکھا
دل کے آنگن میں میرے کیف کے بادل چھائے
اُن کی نسبت سے زمانے میں موقر ٹھہرا
دل میں سرکار کی الفت کی دنیا
میری پلکوں پہ فروزاں ہے دیار طیبہ
شکر ایزد کہ نکھر آئیں ہیں یادیں اُن کی
میں نے لفظوں میں پروئے ہیں ولا کے موتی
دیکھیں کب آتا ہے طیبہ سے بلاوا مجھ کو
اُن کے الطاف سے سرمست ہوں میں بھی دل بھی
غچہ شوق کھلا رہتا رہتا ہے ہر دم خالد
اُن کی خوشبو سے دل و جاں کو معتبر رکھا
طشت میں یاد کی جب اشک کا گوہر رکھا
اُدج پہ خوب میرا رب نے مقدر رکھا
میں نے ہر سانس کو ہر آن معطر رکھا
میں نے پلکوں پہ ہے گھران کا سجا کر رکھا
چشم میں ہے مدینے کا جو منظر رکھا
شعلہ درد کو یوں شوق کا ہمسر رکھا
ہجر کا تارِ رگ جاں پہ ہے نشتر رکھا
شوق میں اپنے ولا کا ہے جو اخگر رکھا
صدفِ دل میں ہے اخلاص کا جوہر رکھا